

JUZ 1 Part 2

PRACTICE WORD SURAH AL BAQARAH 79-141

ساتھ ہاتھوں اپنے	بِ+أَيْدِي+هُمْ	بِأَيْدِيهِمْ
چھوئے گی ہمیں	تَمَسَّ+نَا	تَمَسَّنَا
کیا لے چکے ہو تم	أَ+تَخَذُ+تُمْ	أَتَّخَذْتُمْ
پھر گئے تم	تَوَلَّى+تُمْ	تَوَلَّيْتُمْ
تم بہاؤ گے	تَسْفِكُ+وْنَ	تَسْفِكُونَ
خون اپنے	دِمَاءَ+كُمْ	دِمَاءَكُمْ
گھروں اپنے	دِيَارِ+كُمْ	دِيَارِكُمْ
اقرار کر لیا تم نے	أَفْرَرُ+تُمْ	أَفْرَرْتُمْ
تم تاوان دیتے ہو ان کا	تُقَادُ+و+هُمْ	تُقَادُوهُمْ
پے درپے بھیجے ہم نے	قَفَّيَ+نَا	قَفَّيْنَا
مدد دی ہم نے ان کو	أَيَّدُ+نَا+هُ	أَيَّدْنَاهُ
کیا پس جب کبھی	أَ+فَ+كُلَّمَا	أَفْكُلَّمَا
تکبر کیا تم نے	اسْتَكْبَرُ+تُمْ	اسْتَكْبَرْتُمْ
وہ فتح مانگا کرتے تھے	يَسْتَفْتِحُ+وْنَ	يَسْتَفْتِحُونَ
سوا اس کے	وَرَاءَ+هُ	وَرَاءَهُ

JUZ 1 Part 2

PRACTICE WORD SURAH AL BAQARAH 79-141

ساتھ ہاتھوں اپنے	بِ+أَيْدِي+هُمْ	بِأَيْدِيهِمْ
چھوئے گی ہمیں	تَمَسَّ+نَا	تَمَسَّنَا
کیا لے چکے ہو تم	أَ+تَخَذُ+تُمْ	أَتَّخَذْتُمْ
پھر گئے تم	تَوَلَّي+تُمْ	تَوَلَّيْتُمْ
تم بہاؤ گے	تَسْفِكُ+وْنَ	تَسْفِكُونَ
خون اپنے	دِمَاءَ+كُمْ	دِمَاءَكُمْ
گھروں اپنے	دِيَارِ+كُمْ	دِيَارَكُمْ
اقرار کر لیا تم نے	أَفَرَرُ+تُمْ	أَفَرَرْتُمْ
تم تاوان دیتے ہو ان کا	تُقَادُ+و+هُمْ	تُقَادُوهُمْ
پے درپے بھیجے ہم نے	فَقَّي+نَا	فَقَّيْنَا
مدد دی ہم نے ان کو	أَيَّدُ+نَا+هُ	أَيَّدْنَاهُ
کیا پس جب کبھی	أَ+فَ+كُلَّمَا	أَفْكُلَّمَا
تکبر کیا تم نے	اسْتَكْبَرُ+تُمْ	اسْتَكْبَرْتُمْ
وہ فتح مانگا کرتے تھے	يَسْتَفْتِحُ+وْنَ	يَسْتَفْتِحُونَ
سوا اس کے	وَرَاءَ+هُ	وَرَاءَهُ
نافرمانی کی ہم نے	عَصَى+نَا	عَصَيْنَا

اوپر تمہارے	فَوْقَكُمْ	فَوْقَكُمْ
پس تم آرزو کرو	فَ+تَمَنَّ+وَا	فَتَمَنُّوا
وہ آرزو کریں گے اس کی	يَتَمَنَّوُ+وُه	يَتَمَنُّوهُ
البتہ آپ پائیں گے ضرور انکو	لِ+تَجِدَنَّ+هُمْ	لَتَجِدَنَّهَمْ
چھڑا سکتی اسے	بِ+مُزَحِّحِ+ه	بِمُزَحِّحِهِ
پھینک دیا اسے	نَبَذَ+ه	نَبَذَهُ
وہ سکھاتے تھے دونوں	يُعَلِّمُ+ان	يُعَلِّمَانِ
وہ جدائی / تفریق ڈالیں	يُفَرِّقُ+وَنَ	يُفَرِّقُونَ
ضرر پہنچا سکتے	بِ+ضَارِّينَ	بِضَارِّينَ
وہ نقصان پہنچائے ان کو	يَضُرُّ+هُمْ	يَضُرُّهُمْ
البتہ ثواب پائے	لِ+مَثُوبَةٍ	لِمَثُوبَةٍ
رعایت کریں ہماری	رَاعِ+نَا	رَاعِنَا
ہم منسوخ کرتے ہیں	نَنْسَخُ	نَنْسَخُ
ہم بھلاوا دیتے ہیں اسکو	نُنْسِ+هَا	نُنْسِيهَا
کیا تم چاہتے ہو	أَمْ+تُرِيدُ+وَنَ	أَمْ تُرِيدُونَ
کہ تم سوال کرو	أَنْ+تَسْأَلُ+وَا	أَنْ تَسْأَلُوا
جیسے سوال کئے گئے	لَكَ+مَا+سُئِلَ	كَمَا سُئِلَ
اور جو کوئی بدل لے	وَمَنْ+يَتَبَدَّلُ	وَمَنْ يَتَبَدَّلُ

وہ لوٹا دیں تمہیں	يَرُدُّوْنَ+كُمْ	يَرُدُّوْنَكُمْ
تم آگے بھیج دو گے	تُقَدِّمُوا	تُقَدِّمُوا
تم پاؤ گے اسے	تَجِدُوْهُ	تَجِدُوْهُ
آرزوئیں ان کی	أَمَانِيُّ+هُمْ	أَمَانِيَّهُمْ
ویرانی کی ان کی	خَرَابٍ+هَا	خَرَابَهَا
خواہشوں کی ان کی	أَهْوَاءَ+هُمْ	أَهْوَاءَهُمْ
وہ پڑھتے ہیں اسے	يَتْلُوْ+وْنَ+هُ	يَتْلُوْنَهُ
نفع دے گا اسے	تَنْفَعُ+هَا	تَنْفَعُهَا
پس پورا کر دیا انہیں	فَ+أَتَمَّ+هُنَّ	فَأَتَمَّهُنَّ
اولاد میری	ذُرِّيَّتٍ+ي	ذُرِّيَّتِي
پس فائدہ پہنچاؤں گا اسے	فَ+أُمَتِّعُ+هُ	فَأُمَتِّعُهُ
ناچار کر دوں گا اس کو	أَضْطَرُّ+هُ	أَضْطَرُّهُ
جج / عبادت کے طریقے ہمارے	مَنَاسِكَ+نَا	مَنَاسِكَنَا
منتخب کیا ہم نے ان کو	اصْطَفَيْ+نَا+هُ	اصْطَفَيْنَاهُ
پس نہ تم مرنا ہرگز	فَلَا+تَمُوتُ+نَّ	فَلَا تَمُوتُنَّ
تحقیق گزر چکی	قَدْ+خَلَّتْ	قَدْ خَلَّتْ
کمایا تم نے	كَسَبَ+تُمْ	كَسَبْتُمْ
تم سے پوچھا جائے گا	تُسْأَلُ+وْنَ	تُسْأَلُونَ

پس عنقریب کافی ہو گا تمہیں انکے مقابل	فَ+سَ+يَكْفِي+كَ+هُمُ	فَسَيَكْفِيكَهُمْ
کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے	أَ+تُحَاجُّ+وَنَ+نَا	أَتُحَاجُّوَنَنَا
اعمال ہمارے	أَعْمَلُ+نَا	أَعْمَلُنَا

www.azharululloom.com